

جامعہ اکیڈمک کونسل کا آن لائن اجلاس ، غور و خوض کے بعد لیے گئے کئی اہم فیصلے

جامعہ ملیہ اسلامیہ اکیڈمک کونسل (اے سی) کا ایک اہم اجلاس 6 مئی 2020 (بدھ) کو 'گوگل میٹ' کے ذریعے انعقاد عمل میں آیا۔ 4 گھنٹے تک چلنے والی یہ میٹنگ یونیورسٹی کی تاریخ میں آن لائن پہلی میٹنگ تھی۔ اس میں وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر ، رجسٹرار مسٹر اے پی صدیقی (آئی پی ایس) ، ڈین اور کونسل کے دیگر ممبران نے شرکت کی۔

اجلاس میں کوویڈ 19 کی وجہ سے یونیورسٹی کی تعلیم میں رکاوٹ اور یونیورسٹی کی تعلیم میں بڑی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے متعدد تعلیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اے سی نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) کی طرف سے جاری کردہ نئی رہنما خطوط کو مکمل طور پر اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔

اے سی میٹنگ میں لٹے گئے کچھ اہم فیصلے اور نکات درج ذیل ہیں۔

- \* آن لائن کلاسز اب 31 مئی 2020ء تک ہوں گے۔ قبل ازیں اس کا اختتام 30 اپریل 2020ء تک ہونا تھا۔
- \* اسائنمنٹس جمع کروانے کی آخری تاریخ میں توسیع کر تے ہوئے اسے بڑھا کر 5 جون 2020ء تک کے لیے کر دیا گیا ہے۔
- \* تمام اساتذہ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ 15 جون 2020ء تک یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کی ویب سائٹ پر اسائنمنٹ مارکس / داخلی تشخیص کے نمبرات اپ لوڈ کر دیں۔
- \* صرف آخری سمسٹر / سال آخر کے طلباء کے امتحانات یونیورسٹی میں یکم جولائی 2020ء سے 31 جولائی 2020ء کے درمیان آف لائن منعقد ہوں گے۔ طلباء سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد آن لائن امتحانات فارم جمع کروائیں۔
- \* موسم گرما کی تعطیلات 15 جون سے 30 جون 2020ء تک شروع ہوں گی۔
- \* یونیورسٹی میں دوبارہ یکم اگست 2020ء سے باقاعدہ طلباء کی کلاسز شروع ہوں گی۔

سیشن 2020-21 کے لئے نئے داخلے کے نظام الاوقات:

- \* سیشن 2020-21 کے لئے آن لائن درخواست فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ میں 31 مئی 2020ء ہے۔
- \* داخلہ امتحانات یکم اگست سے اگست 2020ء کے اخیر تک جاری رہیں گے۔
- \* نیا تعلیمی سیشن یکم ستمبر 2020ء سے شروع ہوگا۔

احمد عظیم

پی آر او میڈیا کوآرڈینیٹر